



سوال

(158) منگیتر سے مصافحہ کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کیا آدمی کے لیے اپنی منگیتر کے ساتھ خلوت اختیار کرنا جائز ہے اور کیا وہ اس کے ساتھ مصافحہ کر سکتا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آدمی کے لیے ایسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا جائز نہیں جو اس کے لیے حلال نہیں اور منگیتر بھی اس کے لیے حلال نہیں جب تک ان دونوں کے درمیان عقد نکاح نہیں ہو جاتا کیونکہ وہ اس وقت تک اس کے لیے اجنبی کی ہی حیثیت رکھتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو ایسی عورت کے ساتھ خلوت کرنے سے منع فرمایا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں اور اسی طرح اس کے ساتھ مصافحہ بھی جائز نہیں کیونکہ اس میں فتنہ (کا خدشہ) ہے اور اس لیے بھی درست نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی (اجنبی) عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔ (حسن صحیح مسلم الجامع الصغیر (4856) السلسلۃ الصحیحہ (530) (سعودی فتویٰ کمیٹی)

حدا ما عنہم والتمنا علم بالصواب

فتاویٰ نکاح و طلاق

ص 227

محدث فتویٰ